

اس کے ہونے تک
انتظار نہ کریں۔

TB

تپ دق (TB) ایک سنگین بیماری ہے جو ہوا میں
شامل بیکٹیریا سے ہوتی ہے۔ آپ کو زیادہ خطرہ لاحق
ہے اگر:

• آپ کے روابط ایسے
ملک سے ہیں جہاں
TB عام ہو

• آپ کسی ایسے
شخص کو جانتے
ہیں جسے TB
ہے یا رہی ہے

• آپ کی قوت
مدافعت بستی ہے

• آپ پُرہجوم کم ہوا ہوادار
مکان میں رہتے ہیں

فعال TB



- TB بیکٹریا 'بیدار' رہتے ہیں
- آپ کو طبیعت کی ناسازی کا احساس ہوگا
- آپ دوسروں تک TB منتقل کرسکتے ہیں

علامات:

کھانسی، بخار، وزن میں کمی، بھوک نہ لگنا، رات میں پسینہ آنا، تھکن

مخفی TB



- TB کے بیكٹریا 'سوئے' رہتے ہیں
- آپ کو طبیعت کی ناسازی کا احساس نہیں ہوتا
- آپ دوسروں تک TB منتقل نہیں کر سکتے

آپ میں فعال TB
ہونے کا امکان 10 میں
1 کا ہوتا ہے



THE TRUTH ABOUT TB

TB کے بارے میں سوچیں - اگر آپ فعال TB ہے تو پہلے سے تشخیص اور علاج ضروری ہے
مخفی TB کی جانچ اور اس کا علاج کرائیں -
پرہیز علاج سے بہتر ہے

اگر آپ TB کے بارے میں فکر مند ہیں تو اپنے GP سے بات کریں۔ TB کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یا کسی GP کے پاس اندراج کرانے میں مدد کے لیے

پر جائیں۔ www.thetruthabouttb.org